

ROOTWORDS SURAH ZUMAR 32-52

مَنَامِيهَا	يَجْلُ	مُمْسِكَاتٌ	كَاثِفَاتٌ	يُخَوِّفُونَكَ	بِكَافٍ
ن و م	ح ل ل	م س ك	ك ش ف	خ و ف	ك ف ي
ان کے سونے کے وقت	اترتا ہے	روک سکتے ہیں	دور کر سکتے ہیں	وہ آپ کو ڈراتے ہیں	کافی
بِمُعْجِزِينَ	خَوْلَانَاهُ	حَاقٌ	يَخْتَسِبُونَ	لَا فَعْدُوا	اِسْمَاءَاتٌ
ع ج ز	خ و ل	ح ي ق	ح س ب	ف د ي	ش م ز
عاجز کرنے والے	ہم اسے عطا کرتے ہیں	آگھیرے گا	خیال تھا/گمان	معاوضہ میں دے	منقبض ہوتے ہیں / نفرت کرتے ہیں

ROOTWORDS SURAH ZUMAR 53-75

السَّاحِرِينَ	جَنَّبِ	فُرُطٌ	أَيُّبُوا	تَفَنَّنُوا	أَسْرَفُوا
س خ ر	ج ن ب	ف ر ط	ن و ب	ق ن ط	س ر ف
ہنسا رہا۔	حق	میں نے کوتاہی کی / تقصیر	رجوع کرو	نا امید	زیادتیاں کی ہیں
لَيَخْتَلِنَ	مَقَالِيدُ	بِمَفَازَتِهِمْ	مَفْؤَى	مُسْوَدَّةٌ	كَرَّةٌ
ح ب ط	ق ل د	ف و ز	ث و ي	س و د	ك ر ر
تو ضرور برباد ہو جائیں گے	کچھیاں	ان کی کامیابی کے سبب	ٹھکانہ	سیاہ ہوں گے	لوٹنا
سَبِقَ	وَضِعَ	أَشْرَقَتْ	فَصَعِقَ	مَطْوِيَّاتٌ	قَبِيضَتُهُ
س و ق	و ض ع	ش ر ق	ص ع ق	ط و ي	ق ب ض
ہاسکے جائیں گے	رکھ دی جائے گی	چمک اٹھے گی	بے ہوش ہو جائے گا	لپٹے ہوں گے۔	اس کی مٹھی میں ہوگی
	حَافِينَ	نَسَبُوا	طَبَنُّمَ	زَمَرًا	
	ح ف ف	ب و ا	ط ي ب	ز م ر	
	حلقہ باندھے ہوئے	ہم رہیں گے	تم مزے میں رہے	گروہ گروہ	

ROOTWORDS SURAH GHAFIR 1-35

غَافِرٌ	الطَّوِيلُ	يَعُزُّوْكَ	هَمَّتْ	لِيَذْحِصُوْا	لَمَقَّتْ // مَقَّتْكُمْ
غ ف ر	ط و ل	غ ر ر	ه م م	د ح ض	م ق ت
بخشنے والا	قدرت	آپ کو دھوکا دے	ارادہ کیا	تا کہ مٹادیں	البتہ نفرت / نفرت تمہاری
يُؤْتِي	التَّلَاقِي	بَارِزُوْنَ	الْأَرْزَاقَةَ	الْخَنَاجِرِ	كَاطِبِيْنَ
ن و ب	ل ق ي	ب ر ز	ا ز ف	ح ن ج ر	ل ك ظ م
رجوع کرتا ہے	ملاقات کے	کھڑے ہوں گے	قرب آئے والی	گلوں تک	غم کے مارے
آثَارًا	وَاقِي	غَذَّتْ	مُسْتَرْفٍ	ذَأْبٍ	التَّنَادِ
ا ث ر	و ق ي	ع و ذ	س ر ف	د ا ب	ن د و
نشانات	کوئی بچانے والا	پناہ لے چکا ہوں	حد سے بڑھنے والا	حال ہوا	چین و پکار کے
		زَلَمْتُ	مَقَّتْنَا		
		ز ي ل	م ق ت		
		تم برابر رہے	نازیبا / ناپسند		